



سوال

پندرہ سال کی عمر کے بعد چھوڑے گئے روزوں کا فدیہ

جواب

متعدد سالوں کے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کا حکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں نے تقریباً چار پانچ سال سے مسلسل ماہ رمضان کے پورے روزے رکھنا شروع کیے ہیں، الحمد للہ، اب اگر کوئی شرعی عذر کی وجہ سے روزے چھوٹ جائیں تو قضا بھی دیتا ہوں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ میں نے پندرہ سال کی عمر سے لے کر توبہ کرنے والے سال تک ماہ رمضان کے روزے رکھے بھی ہیں، اور چھوڑے بھی ہیں، مجھے کچھ یاد نہیں کہ میں نے کتنے رکھے ہیں، کتنے چھوڑے ہیں، مجھے مسئلے کا بھی اب پتہ چلا ہے، توبہ میں کیسے فدیہ دوں؟ اور کیا قضا بھی کرنا ہوگی، کیونکہ میرے لیے رمضان کے علاوہ سال کے دیگر دنوں میں روزے رکھنے بہت مشکل ہیں۔ کیا میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ سکتا ہوں کہ توبہ سے پہلے جو بچکا سو بچکا، اب اگر میں نے روزے چھوڑے تو قضا کروں گا، اور اسی سال قضا نہ ہوئے تو فدیہ بھی دوں گا؟ تو کیا ایسا کرنا جائز ہے۔؟ الحجاب بعون الوہاب بشرط صحیحہ السؤال وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ! الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد! صورت مسؤلہ میں آپ کو گزشتہ تمام چھوڑے ہوئے روزوں کی اللہ سے توبہ کرنی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ قضا دیتے ہوئے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کا کھانا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر آپ کو ان کی گنتی یاد نہیں ہے تو ظن غالب پر بنیاد رکھتے ہوئے تکمیل کریں۔ شیخ ابن باز کا یہی موقف ہے۔ ہذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب

محدث فتویٰ کمیٹی

دارالافتاء محدث